



## FinanceMission کے ہیروز FinanceMission Heroes

معاشی خواندگی کی تربیت بذریعہ کھیل

معزز والدین

سوئٹزر لینڈ میں 18 سے 24 سال کے لوگوں کی ایک چوتھائی سے زیادہ تعداد ایسے گھرانوں میں رہتی ہے جہاں ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے۔\* نوجوانوں کو قرضے میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹی عمر میں پیسے کو ذمہ داری سے خرچ کرنا سیکھ جائیں۔ اس لیے نئے نصاب میں سیکنڈری سکول کے طلباء اور طالبات میں معاشی خواندگی کو فروغ دینے کو شامل کیا گیا ہے۔

اس لیے ٹیچرز کی ایسوسی ایشنز LCH اور SER نے Swiss Cantonal Banks کے تعاون سے ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن گیم FinanceMission Heroes تخلیق کی ہے۔

FinanceMission Heroes صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ایک سنجیدہ تعلیمی کھیل ہے جس کو مختلف ماہرین نے مل کر تخلیق کیا ہے۔ اس کے ذریعے پیسے اور ذاتی ضرورتوں سے سوچ سمجھ کر نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے۔

لہذا اس موقع پر طلباء اور طالبات کو کلاس میں گیم کھیلنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ FinanceMission Heroes سے انہیں بجٹ بنانے، خریداری کے متعلق کیے گئے فیصلوں کی جانچ کرنے، حصول کے وقت اور بعد کے خرچے کے ساتھ اور بہت سی چیزوں کی تربیت ملتی ہے۔

تاہم اس کا کھیلنا بذات خود تربیت کے وقت کے ایک بہت چھوٹے حصے پر محیط ہے۔ FinanceMission کی تربیتی پیشکش میں ورک شیٹس بھی شامل ہیں جن کے ذریعے طلباء اور طالبات گیم میں حاصل کردہ تجربے کا اطلاق اپنی روزمرہ زندگی پر کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات ہماری ویب سائٹ [www.financemission.ch](http://www.financemission.ch) پر دیکھی جا سکتی ہیں، خصوصاً سوال و جواب کے سیکشن <http://www.financemission.ch/faq> میں۔

ہاں یہ یاد رہے: FinanceMission Heroes نے 2016 میں Best of Swiss Apps میں کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔

ہمیں بہت خوشی ہو گی کہ اگر آپ کا بچہ/کی بچی بھی تربیت کے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے نتیجے میں اپنی معاشی خواندگی کو بہتر کر سکے۔

بصد خلوص

Association FinanceMission

Samuel Rohrbach

بورڈ کے رکن  
H SER کے صدر

Beat W. Zemp

LCH کے صدر

\* فیڈرل سٹیٹیسٹیکل آفس کا سروے